

معزز رہائشی

آج ہم آپ کو ٹرائل ایکٹیو ٹریول اسکیم لیوینزیوم کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔

یہ اسکیم آزمائشی طور پر ہماری گلیوں کو سائیکل سواروں، پیدل چلنے والوں کے لیے، معذوروں کی نقل و حمل میں مدد کرنے والی گاڑیوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے چلائی گئی ہے۔ ہم آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں کہ آمدورفت کے لیے لگائی گئی رکاوٹیں عارضی ہیں اور اگر آپ ان کو مستقل چاہتے ہیں تو آپ کو کونسل کو آگاہ کرنا پڑے گا۔

ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ کچھ گلیوں میں رکاوٹیں موجود ہیں بڑی سڑکوں سے چھوٹی گلیوں میں آنے والی گاڑیوں کی آمدورفت کو روکنے کے

لیئے، مگر اسکیم کو مزید لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔

ہم چاہتے ہیں کہ منصفانہ طور پر مزید گلیوں اور پیدل چلنے والے راستوں کو بھی شامل کیا جائے۔

یہ آزمائشی رکاوٹیں کچھ مہینوں کے لیے عارضی طور پر لگائی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مہم کو وسعت ملے تو اس کے لیے آپکا کونسل کو ابھی مطلع کرنا بہت ضروری ہے۔

گاڑیوں کی ہموار آمدورفت اور مرکزی سڑکوں پر محفوظ گزر گاہیں:

یہ نہ صرف یہاں رہائش پذیر لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جو یہاں سے روزانہ سفر کر کے جاتے ہیں۔

اس میں مزید گزرگاہیں، گاڑیوں کی رفتار میں ردوبدل اور مزید مختلف اقدامات کر کے مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔ یہ آپ کے علاقہ خاص طور پر میتھیوز لین اور ماونٹ روڈ کے لیے بہت اہم ہے۔

نمائشی آمدورفت کی رکاوٹیں:

کے شمال میں صرف ایک عارضی رکاوٹ موجود ہے باوجود اس کے کہ وہاں ۳ پرائمری Matthews lane میتھیوز لین اسکول ہیں۔

لونگٹن روڈ پر عارضی رکاوٹیں تو موجود ہیں مگر وہ غلط مقامات پر لگائی گئی ہیں۔ اگر ان کو صحیح جگہ پر لگایا جاتا تو یہ زیادہ علاقہ کے لیے کارگر ثابت ہوتیں۔ حالیہ مشاورت میں ایک اور رکاوٹ آرمیٹیج ایونیو پر لگانے کی پیشکش کی گئی، جو کہ لونگ سائٹ کے کونسلرز کی رضامندی نہ ہونے کے باعث فی الحال نہیں تعینات نہیں کیا گیا۔ ہماری رائے میں یہ نا کافی ہے۔ شمالی لیوینزیوم کے رہائشی گلیوں کی مزید اصلاحات کی حقدار ہے ان اصلاحات میں پیدل اور سائیکل سواروں کا محفوظ

سفر بھی شامل ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر لونگٹن روڈ پر رکاوٹوں کو مناسب جگہ پر لگایا جائے اور ایک اضافی رکاوٹ آرمیٹیج ایونیو پر لگائی جائے تو اس سے زیادہ واضح فرق پڑے گا۔ ہم نے مزید گزرگاہوں کا مشورہ بھی شامل کیا ہے۔

ہم آپ سے کیا تعاون چاہتے ہیں:

(1) ہماری درخواست پہ دستخط کریں اس لنک پر جا کر جس میں ہم نے مرکزی سڑکوں کے لیے مزید اصلاحات اور مزید فعال مہم کا تقاضہ کیا ہے

<https://streetsforpeople.co.uk/>

(2) اگر آپ چاہتے ہیں کہ نمائشی ٹریفک فلٹرز (رکاوٹیں) لونگٹن روڈ پر موجود رہیں تو درج ذیل لنک <https://levenshulmeandburnageactiveighbourhood.commonplace.is/>

پر کلک کریں ”Have your Say“ پر جائیں اور

اور اپنے علاقے کے بارے میں دونوں حصوں پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔

• اس مہم پر آپ کی رائے

نمائشی رکاوٹوں اور آزمائشی اقدامات کے پہلے حصے کے بارے میں آپ کی رائے

بڑے علاقے میں گاڑیوں کی کم آمدورفت چاہتے ہیں تو آپ اپنی تجاویز دے سکتے ہیں کہ فلٹر کو تجویز شدہ مقام پر اگر آپ لگایا جائے۔


(3) اگر آپ رضامند ہیں کہ آرمیٹیج ایونیو پر اضافی فلٹر لگایا جائے اور مزید بہتری اپنے علاقے میں چاہتے ہیں تو کونسل کو یہاں ای میل کر سکتے۔ Levyburnageproject@manchester.gov.uk

مشکور

موجودہ منصوبہ



مزید پیدل گزر گاہوں اور مزید رکاوٹوں (filters) کا منصوبہ



جہاں سے اضافی گاڑیوں کی آمد و رفت نہ ہو بغیر ٹریفک کے گلیاں



ماڈل فلٹرز



پیدل گزرگاہ



پیدل چلنے والوں کے لئے راستہ



تجاویز شدہ چوک/گزرگاہ